



مومنو! خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورة التَّحْرِيمِ

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟

تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَوْلِيائكِ

کیا اس سے اپنی بیبیوں کی خوشنودی چاہتے ہو

وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ (1)

اور خدا بخشنے والا مہربان ہے

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ^ج

خدا نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے

وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ^ط

اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)

اور وہ دانا (اور) حکمت والا ہے

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا

اور (یاد کرو) جب پیغمبر نے اپنی ایک بی بی سے ایک بھید کی بات کہی

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ^ط

تو (اس نے دوسری کو بتادی) جب اس نے اسکو افشا کیا اور خدا نے اس (حال) سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے (ان بی بی کو وہ بات) کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا^ط

تو جب وہ ان کو بتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟

قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيدُ (3)

انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا^ط

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو (تو بہتر ہے کیونکہ) تمہارے دل کج ہو گئے ہیں

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ^ط

اور اگر پیغمبر (کی ایذا) پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبریل اور نیک کردار مسلمان انکے حامی (اور دوستدار) ہیں

وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)

اور (انکے علاوہ اور) فرشتے بھی مددگار ہیں

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ

اگر پیغمبر تم کو طلاق دیدیں تو عجب نہیں ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیبیاں دیدے

مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5)

مسلمان صاحب ایمان، فرزند دار، توبہ کرنے والیاں،

عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ

اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر ہیں)

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

جو ارشاد خدا انکو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ

کافرو! آج بہانے مت بناؤ

إِنَّمَا نُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7)

جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

مومنو! خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا

وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور تم کو باغہائے بہشت میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کریگا۔

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف (روشنی کرتا ہوا) چل رہا ہوگا

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُرْ لَنَا

اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)

بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو

وَمَا أُوْاهُمْ جَهَنَّمَ^ط

ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے

وَبِئْسَ الْمَصِيْبُوْ (9)

اور وہ بہت بری جگہ ہے

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِمْرَاَتٌ لُّوْحٍ وَّامْرَاَتٌ لُّوْطِ^ط

خدا نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔

كَانَتَا تَحْتِ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

اور دونوں نے انکی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے

وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ (10)

اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونیوالوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِمْرَاَتٌ فِرْعَوْنَ

اور مومنوں کے لئے (ایک) مثال (تو) فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی

اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ لِيْ عِنْدَكَ بِئِيْمًا فِى الْجَنَّةِ

کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا

وَوَجَّعْنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ

اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش

وَجِئِنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11)

اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَاهُ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

اور (دوسری) عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرم

گاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی

وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ

اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)

اور فرماں برداروں میں سے تھیں۔



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com